

برائے فوری اجراء

برامپٹن اپنی معاشی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے منصفانہ اور بروقت فنڈنگ کا خواہشمند ہے

سٹی وفاقی اور صوبائی حکومت کے 2020 کے بجٹ سے پہلے کی مشاورتوں میں مشورے فراہم کر رہا ہے

برامپٹن، آن (25 جنوری 2020) – سٹی آف برامپٹن **وفاقی** اور **صوبائی** حکومتوں کے 2020 کی بجٹ سے پہلے کی مشاورتوں کے حصے کے طور پر کئی کلیدی ترجیحات کے حوالے سے وکالت کر رہا ہے۔

آج، پارلیمنٹ کے مقامی اراکین – روبی سابوٹا، کمال خیرہ، منیندر سدھو، رمیش سنگھا اور سونیا سدھو – کے ساتھ ملاقات کے دوران میئر پیٹرک براؤن نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے سٹی کی درخواستوں کے متعلق تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے ٹرانزٹ کے لیے طویل مدتی فنڈنگ کی اہمیت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برامپٹن کے انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ رور واک جیسے قابل استحکام اقدامات کی اہمیت اور ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے اور اس سے مطابقت اختیار کرنے میں اس کے کردار کے بارے میں بھی بات کی گئی۔

گذشتہ روز (24 جنوری) میئر پیٹرک براؤن نے ایک ملاقات کے دوران اونٹاریو پریمیئر ڈوگ فورڈ (Ontario Premier Doug Ford) کو **صوبائی سفارشات کی دستاویز** پیش کی۔ انہوں نے برامپٹن کے اہم ترین مسائل، مثلاً نگہداشت صحت کے لیے لمبے عرصے سے فنڈنگ کی کمی اور پیل میموریل ہاسپٹل کی توسیع میں معاونت اور نگہداشت صحت کی ایک تیسری سہولت گاہ کے قیام کے لیے فوری فنڈنگ کی ضرورت کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ میئر براؤن نے صوبے کی جانب سے پیل ریجنل پولیس کے کمیونٹی کی حفاظت اور جرائم کی روک تھام کے اقدام کے لیے \$20.5 ملین کی فنڈنگ کے اعلان کو بھی خوش آمدید کہا ہے۔ ان کی میٹنگ میں مسلح جرائم کو روکنے کے لیے ہائی ویز 410 اور 403 پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ضرورت اور **برامپٹن میں پرووینشل اوفینسز ایکٹ (POA)** **کورٹ ہاؤس میں عدالتی وسائل کی کمی** کے حوالے سے بات چیت بھی شامل تھی۔

میئر نے درخواست کی کہ کونسل اور سٹی کے حکام کو سٹی کی وفاقی ترجیحات، بجٹ کی موجودہ گزارشات اور نئی فنڈنگ کے حصول کے لیے آنے والے مواقع کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدگی سے اطلاعات دی جائیں۔

ذیل میں بجٹ کی پہلی سفارشات کی کچھ شہہ سرخیاں موجود ہیں۔ مکمل دستاویزات **سٹی کی ویب سائٹ** پر دستیاب ہیں۔

- فنڈنگ کی تقویض کا ایک منصفانہ ماڈل، جو تیزی سے بڑھتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ اور برامپٹن زوم ٹرانزٹ کے نظاموں کو پیش آنے والے دباؤ کے مسئلے کے حل پر مرکوز ہو اور ان کا ازالہ کرتا ہو
- ہورینٹیوریو مین اسٹریٹ LRT کو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن گو اسٹیشن تک بڑھانے کے لیے فنڈنگ کا وعدہ، جبکہ ماحولیاتی جائزے پر کام جاری رہے
- رورواک کے لیے معاونت، جو ایک انقلابی پراجیکٹ ہے، جو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں معاشی توانائیوں کو پوری طرح استعمال کرنے کو ممکن بنائے گا، جس سے کینیڈا کی معیشت میں \$256 ملین کا اضافہ ہو گا اور 2,200 کل وقتی نوکریاں پیدا ہوں گی
- برامپٹن میں "رہبروں میں علاج" کو روکنے، پیل میموریل سنٹر کے مرحلہ II کو توسیع دینے اور برامپٹن میں ایک تیسرے ہسپتال کے لیے ادائیگی کے لیے نگہداشت صحت کی فوری اور مساوی فنڈنگ
- قانون سازی کے ذریعے برامپٹن یو (BramptonU) کا قیام اور بعد از ثانوی تعلیم کے مزید مواقع پیدا کرنے میں مدد۔ ایک مین اسٹریٹ ریسرچ سروے کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ برامپٹن کے 83% رہائشی برامپٹن میں ایک یونیورسٹی چاہتے ہیں۔
- کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کے حوالے سے ایک کلیاتی طرز عمل کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کے تمام درجوں کے درمیان برامپٹن کے حوالے سے مخصوص ڈیٹا کے تبادلے کو بڑھانا

اقتباسات

"اس نئی دہائی میں، شہروں کو اس چیز پر پرکھا جائے گا کہ ہم کیسے پُراستحکام طور پر اپنی بڑھوتری کو منتظم کر سکتے ہیں، نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں اور لوگوں اور چیزوں کی نقل و حمل کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ان کئی پراجیکٹس کے لیے منصفانہ اور مساوی فنڈنگ کے حصول کے لیے اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے، جو شہر، اونٹاریو اور کینیڈا کے لیے معاشی توانائیوں کے استعمال کو ممکن بنائیں گے۔ برامپٹن کمیونٹی کی حفاظت کے حوالے سے کی جانے والی حالیہ سرمایہ کاریوں کے لیے ہم مشکور ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی سفارش کی مسلسل اور متحدہ کوششیں ہماری کمیونٹی کی ترجیحات کو مثبت طور پر آگے بڑھا رہی ہیں۔ ہم کاروباری مواقع، بعد از ثانوی تعلیم، مؤثر نگہداشت صحت اور تمام لوگوں کے لیے استطاعت پیدا کر کے اپنی کمیونٹی کو ترقی دینے کے لیے حکومت کے دونوں درجوں سے مسلسل معاونت کے لیے پر امید ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہر سال ہزاروں لوگ رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے جگہ کے طور پر برامپٹن کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری بڑھوتری کی ایک دلچسپ کہانی ہے، جسے ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی معاونت سے مزید مضبوط بنانا چاہیں گے۔ ہم اپنے حکومتی شراکت داروں کو مزید مشترکہ اقدامات میں شامل کرنا جاری رکھیں گے، جو ہماری کونسل کے اس دور کی ترجیحات اور برامپٹن 2040 ویژن کے مطابق ہیں۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca